



سوال

(159) نماز باجماعت کے تارک کو رشتہ نہ دیا جائے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ہاں ایک نوجوان میری بہن کا رشتہ طلب کرنے آیا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس پر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ اسے رشتہ دیا جائے یا انکار کر دیا جائے۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ ہم اسے رشتہ دے دیں، شائد اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمادے، لیکن والد صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس بارے میں شرعی حکم چاہتی ہوں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جس شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو ضروری ہے کہ اسے رشتہ نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ جماعت کا ترک کر دینا کھلی معصیت ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے اور کھینا ترک نماز کا پیش خیمہ ہے جو کہ کفر اکبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(إِنَّ النَّافِقِينَ إِخْوَانُ لِلَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَائِدٍ) (النساء 4 142)

”بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی چالبازیاں ان پر الٹ رہا ہے اور یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کالی سے کھڑے ہوتے ہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

(إِنَّ أَقْبَلَ صَلَاةٍ عَلَى النَّافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ نَافِيهَا لَأَتَوْهَا وَلَوْ جَبُوا) (متفق علیہ)

”عشاء اور صبح کی نمازیں منافقوں پر انتہائی بھاری ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کتنی فضیلت کی حامل ہیں تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے ضرور آئیں۔“

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(نَقَدَرْنَا نِيَّتَنَا وَمَا سَلَّمَتْ عَيْنُنَا - يَعْنِي الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ - إِلَّا مَنَّا فَمَعْلُومُ النِّفَاقِ) (صحیح مسلم)



”ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے صرف خالص منافق ہی پیچھے بستے تھے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے :

(إِنَّ الْعَمَلِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ) (سنن ترمذی رقم 2623، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ رقم 1079، مسند احمد 5 346، مستدرک الحاکم 1 7 سنن الدارمی، السنن الکبریٰ للبیہقی 3 366، مصنف ابن ابی شیبہ 11 34 و صحیح ابن حبان، رقم 1454)

”ہمارے اور کفار و مشرکین کے ماہین صرف نماز ہی حد فاصل ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے یقیناً کفر کیا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یوں ہے :

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (صحیح مسلم)

”مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے۔“

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز باجماعت کا ترک کرنا کھینٹا نماز ترک کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی ہدایت اور توفیق کے لیے دعا گو ہیں۔۔۔ شیخ ابن باز۔۔۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ برائے خواتین

نکاح، صفحہ: 173

محدث فتویٰ